



## AUSTRALIAN HIGH COMMISSION ISLAMABAD

پریس ریلیز

### آسٹریلیا ایوارڈ فیلوز کی پاکستان میں مجرمانہ انصاف کی اصلاحات پر ڈسکشن

پاکستان میں آسٹریلیا کی ہائی کمشنر، مارگریٹ ایڈمنسن اور پاکستان کے اٹارنی جنرل، اشتر اوصاف علی، نے آج پاکستان میں مجرمانہ انصاف کی اصلاحات پہ ریسرچ کی تکمیل پر 8 آسٹریلیا ایوارڈز فیلوز کو مبارکباد دی۔

تقریب کا انعقاد اسلام آباد میں سرینا ہوٹل میں آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی کی طرف سے منظم ایک ورکشاپ کے ساتھ کیا گیا۔

ورکشاپ کمیونٹی لیول پہ تنازعات کے حل، کمیونٹیز کو قانونی طور پہ باختیار بنانے، ذہنی صحت، مجرمانہ انصاف اور انسداد دہشت گردی کے قوانین کے غلط استعمال سمیت مجرمانہ انصاف کے مسائل پر فیلوز کی ریسرچ کے نتائج پر بات چیت پہ مشتمل تھی۔

"میں پاکستان واپس آنے والے فیلوز کا استقبال کرتی ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہے اور یقین ہے کہ یہ فیلوز پاکستانیوں کے مفاد کے لیے پاکستان میں مجرمانہ انصاف کے نظام کی کارکردگی اور تاثیر کو بہتر بنانے کے لئے مجرمانہ انصاف کی اصلاحات کی وکالت کرتے رہیں گے،" ہائی کمشنر ایڈمنسن نے کہا۔

فیلوز کی یہ ریسرچ آسٹریلیا ایوارڈز فیلوشپ پروگرام کی مالی امداد کے ساتھ کینبرا میں آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی میں مکمل کی گئی۔

آسٹریلوی حکومت کی آسٹریلیا ایوارڈز فیلوشپ کا مقصد آئندہ نسلوں کو کامیاب جامع اور پائیدار اقتصادی و سماجی ترقی کی صلاحیتوں اور علم سے لیس کرنا ہے۔ فیلوشپ مختصر مدت کے مطالعہ اور پیشہ ورانہ تعلیم کے ذریعے دنیا بھر سے لیڈرز اور پیشہ ور افراد کے ساتھ روابط کو وسیع کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔

تفصیلات کے لئے کلک کیجئے

[australiawardspakistan.org](http://australiawardspakistan.org)

---

صحافیوں اور ایڈیٹرز کے لئے نوٹ: مزید معلومات کے لئے، برائے مہربانی آسٹریلوی ہائی کمشنر کے میڈیا اینڈ پبلک ڈیپلومیسی ڈپارٹمنٹ سے اس ای میل پہ رابطہ کریں: [media.islm@dfat.gov.au](mailto:media.islm@dfat.gov.au) + (0) 92 8355500